

جس ولیمے میں میوزک ہو، وہاں شرکت کرنا

فتویٰ نمبر: WAT-179

تاریخ اجراء: 15 ربیع الاول 1443ھ / 22 اکتوبر 2021ء

دارالافتاء اہلسنت

(دعوت اسلامی)

سوال

جس ولیمے میں میوزک ہو، وہاں شرکت کرنا کیسا ہے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

اولاً تو یہ ذہن نشین رہے کہ شادی بیاہ کا موقع ہو یا کوئی اور، ڈھول بجانا، گانے اور میوزک چلانا، سخت ناجائز و حرام اور اللہ عزوجل کی شدید نافرمانی والے کام ہیں۔ جو جو اس کام میں شریک اور رضامند ہوں گے، اس کے وبال میں برابر کے شریک اور عذاب الہی کے مستحق قرار پائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے: دو آوازیں دنیا و آخرت میں ملعون ہیں: (۱) نعمت کے وقت باجے کی آواز، اور (۲) مصیبت کے وقت رونے کی آواز۔ لہذا شادی بیاہ ہو یا کوئی اور موقع، اس میں ناجائز کاموں سے لازمی طور پر بچا جائے۔

رہا یہ معاملہ کہ شادی میں شرکت کرنی ہو، اور وہاں ناجائز کاموں کا ارتکاب پایا جائے گا، تو اس میں شرکت کرنا کیسا؟ تو اگر پہلے سے معلوم ہے کہ وہاں ناجائز کام کئے جائیں گے، تو وہاں شرکت کرنا ہی جائز نہیں۔

اور اگر جانے کے بعد پتہ چلے کہ یہاں لغویات و ناجائز کام ہیں، تو اگر خاص اسی جگہ ہیں، جہاں پہ موجود ہیں، تو حکمتِ عملی سے روکنا ممکن ہو، تو روک دیا جائے، ورنہ واپس آجائیں اور اگر کسی دوسری جگہ مثلاً مکان وغیرہ کے دوسرے حصے میں ہیں۔ جس جگہ کھانا کھلایا جائے گا، وہاں نہیں، تو بیٹھ سکتے ہیں اور کھانا کھا سکتے ہیں۔

البتہ اگر شرکت کرنے والے مقتدیٰ و پیشوا مثلاً علماء و مشائخ ہوں، تو روکنے پہ استطاعت رکھتے ہوں، تو روک دیں، ورنہ وہاں نہ بیٹھیں اور کھانا نہ کھائیں، اگرچہ یہ لغویات مکان کے دوسرے حصے میں ہوں۔

نیز یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اگر شادی وغیرہ کے موقع پہ لغویات ہوں اور جانے والا شخص جانتا ہو کہ میرے جانے سے یہ چیزیں بند ہو جائیں گی، تو اُس کو اس نیت سے جانا چاہئے، تاکہ اس کے جانے سے منکراتِ شرعیہ روک دیئے جائیں۔

اور اگر معلوم ہو کہ وہاں نہ جانے سے ان لوگوں کو نصیحت ہوگی، اور پھر آئندہ ایسے موقع پہ وہ یہ حرکتیں نہ کریں گے، تو اس پر لازم ہے کہ وہاں نہ جائے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور وہ آئندہ ایسی حرکتوں سے باز آئیں۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ



DARUL IFTA AHLESUNNAT

Dar-ul-Ifta Ahlesunnat (Dawat-e-Islami)



www.daruliftaahlesunnat.net



[daruliftaahlesunnat](https://www.facebook.com/daruliftaahlesunnat)



[DaruliftaAhlesunnat](https://www.youtube.com/DaruliftaAhlesunnat)



[Dar-ul-ifta AhleSunnat](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daruliftaahlesunnat)



feedback@daruliftaahlesunnat.net